



سوال

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پھر رکعت کی نماز (ظہر، عصر، اور عشاء) کی تیسری رکعت میں پہلے تشهد کے بعد ثناء یعنی "سبحانک اللہم وسبحک" پڑھنا ضروری ہے۔؟

جواب

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

ثناء اور دعائے استفتاح صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثناء یا دعائے استفتاح صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھتے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ سَكَتَ فِيهَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالسَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالنَّبَرِدِ» (سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء في السَّجْدِ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ١٩٨٦ء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تھے تو اس وقت تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ تکبیر تحریمہ اور قراءت کے مابین خاموشی کے وقفہ میں کیا پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں یہ پڑھتا ہوں:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالسَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالنَّبَرِدِ»

اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ (ایضاً)

اس روایت میں نماز شروع کرنے کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ دعائے استفتاح صرف نماز کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے۔

بذما عندی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
الاسلامية
مهدى فتوى

فتاوى علمائے

حدیث

جلد 2 کتاب الصلوة